



سوال

(146) کیا کافر پڑوسی کو قربانی کے گوشت کا تحفہ دیا جاسکتا ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا قربانی کے گوشت میں کافر پڑوسی کا بھی حصہ ہے یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

مسلمان کے لئے جائز ہے۔ کہ وہ اپنے کافر پڑوسی کی دلجوئی اور اس کی تالیف قلب کے لئے اسے قربانی کے گوشت کا تحفہ دے حق پڑوسی کا بھی یہ تقاضا ہے۔ اور شرعاً اس کی ممانعت کی کوئی دلیل بھی نہیں اس ارشاد باری تعالیٰ کے عموم کے مطابق بھی یہ جائز قرار پاتا ہے کہ:

لَا يَنْهِيكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُضِلُّوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُحْزِنُوكُمْ مِنْ دِينٍ أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ ... سورة الممتحنة

"جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا اللہ تو انصاف کرن والوں کو دوست رکھتا ہے۔"

فتویٰ کمیٹی کی طرف سے اس مسئلہ میں پہلے بھی حسب ذیل فتویٰ جاری ہو چکا ہے کہ:

"ہمارے لئے یہ جائز ہے کہ ہم کسی کافر زمی اور قیدی کو قربانی کا گوشت کھلائیں فقر قرابت پڑوس یا تالیف قلب کے لئے کسی بھی کافر کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے۔ کیونکہ قربانی کے جانور کو ذبح یا نحر کرنا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے تقرب کے حصول کے لئے ہے۔ اور اس کے گوشت کے بارے میں افضل یہ ہے کہ ایک ٹمٹ خود کھائے ایک ٹمٹ رشتہ داروں پڑوسیوں اور دوستوں کو تحفہ دے اور ایک ٹمٹ فقیروں میں صدقہ کر دے۔ اس میں اگر کسی بیشی ہو جائے یا کسی ایک قسم میں ہی سارا گوشت صرف کر دے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں اس میں کافی گنجائش ہے۔ البتہ کسی حربی کافر کو قربانی کا گوشت نہیں دینا چاہیے۔ کیونکہ اس کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کی بجائے اس کی کمزوری اور ذلت اور رسوائی مقصود ہے۔"

حسب ذیل ارشاد باری تعالیٰ کے عموم کے پیش نظر دیگر نفل صدقات کے لئے بھی یہی حکم ہے:

لَا يَنْهِيكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُضِلُّوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُحْزِنُوكُمْ مِنْ دِينٍ أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا يَنْهِيكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ هَتَمُوا فِي الدِّينِ وَأُخْرِيكُمْ مِنْ دِينِكُمْ وَظَهَرَ وَأَعْلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾ ... سورة الممتحنة

